1. Which gas is required during combustion? (a) Nitrogen (b) Carbon dioxide (c) Oxygen (c) Oxygen (d) Hydrogen (e) Oxygen (e) Oxygen (f) Fe2O (g) Fe2O3 (h) Rusting (h) Rusting (h) Rusting (h) Rusting (h) Heating of sugar (h) Rusting (h) Ru				•	1					
chemical reactions and rusting. Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×4=4 الرية و لل شي حدورت جواب كالتخاب كري اوراً سي كرودا كرواكن الله الله الله الله الله الله الله الل		Time: 10 Minut	tes	Paper G. S	Scie	nce 7th	T	otal	Marks	:: 10
Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (1×4=4 الري ق يل مين بي ورست جواب كااتخاب كرين اوراك كردوائزه لگا كين بي اوراك كردوائزه لگا كين بي اوراك كردوائزه لگا كين بي الله الله الله الله الله الله الله الل	3r	d Month, 1st Wee	ek, 31	rd Day Syllab	us:	Unit # 5:	Role	of o	xygen i	n natural
1. Which gas is required during combustion? (a) Nitrogen (b) Carbon dioxide (c) Oxygen (c) Oxygen (d) Hydrogen (e) Oxygen (e) Oxygen (f) Fe2O (g) Fe2O3 (h) Rusting (h) Rusting (h) Rusting (h) Rusting (h) Heating of sugar (h) Rusting (h) Ru										
1. Which gas is required during combustion? (a) Nitrogen (b) Carbon dioxide (c) Oxygen (c) Oxygen (d) Hydrogen 2. Fe + O2 (moist air) (e) Fe + O2 (moist air) (f) Fe + O2 (moist air) (g) Fe + O2 (moist air) (h) Fe + Fe + O3 (moist air) (h) Rusting (h) Rusting (h) Rusting (h) Heating of zinc oxide (h) Mone (h) CO2 (h) CO2 (h) H2 CO3 (h) None (h) None (h) CO3 (i) What is rusting?	Q.l	No.1 Encircle the	cori							(1×4=4)
(a) Nitrogen (b) Carbon dioxide (c) Oxygen (d) Hydrogen (e) Oxygen (e) Oxygen (d) Hydrogen (e) Fe + O2 (moist air) (a) FeO (b) Fe2O (c) Fe2O3 (d) FeO3 (a) FeO (b) Fe2O (c) Fe2O3 (d) FeO3 (a) Combustion (b) Rusting (c) Heating of sugar (c) Heating of sugar (d) Heating of zinc oxide (e) Heating of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? (a) CO (b) CO2 (c) H2CO3 (d) None (b) CO3 (c) H2CO3 (d) None (d) None (d) None (e) H2CO3 (d) None (d) None (e) H2CO3 (d) None (d) What is rusting?	1	Which gos is you				•	بقالتحاب	ن جوار	سنے درست	درن دين پيل
2. Fe + O ₂ (moist air)	1.	which gas is rec	quire	cu during come	ousi	اناناء رت ہوتی ہے؟	بس کی ضرور	ن سي مي	کے دوران کوا	<u> جلئے سے عمل _</u>
2. Fe + O ₂ (moist air)	(a)	Nitrogen		نائٹروجن	(b)	Carbon di	oxide		کسائیڈ	کاربن ڈائی آ
2. Fe + O ₂ (moist air)	(c)	Oxygen		آ کسیجن آ	(d)	Hydrogen	L			ما ^م گڈروجن
3. Which of the following is not a chamical process? (a) Combustion (b) Rusting (c) Heating of sugar (d) Heating of zinc oxide (e) Heating of sugar (f) Which of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? (a) CO (b) CO2 (c) H2CO3 (d) None	2.	Fe + O ₂ (moist a	ir) -			•				
(a) Combustion (b) Rusting (c) Heating of sugar (d) Heating of zinc oxide (e) Heating of sugar (f) Heating of zinc oxide (g) Heating of sugar (h) Heating of zinc oxide (h) He	(a)	FeO	(b)	Fe ₂ O	(c)	Fe ₂ C)3	(d)	Fe	eO ₃
4. Which of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? ا الله الله الله الله الله الله الله ا	3.	Which of the fol	lowi	ng is not a cha	mic	al process	?			
4. Which of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? ا الله الله الله الله الله الله الله ا						ہے؟	ئىمل نېيىل.	أتيميا	اسے کون سا	درج ذیل میں
4. Which of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? ا الله الله الله الله الله الله الله ا	(a)	Combustion		جلنے کاعمل	(b)	(b) Rusting				
4. Which of the following is formed by the reaction of carbon and oxygen? ا الله الله الله الله الله الله الله ا	(c)	Heating of sugar		شوگر کوگرم کرنا	(d)	Heating of	f zinc ox	kide	. کوگرم کرنا	زنک آ کسائیڈ
(a) CO (b) CO ₂ (c) H ₂ CO ₃ (d) None كونى نهير (a) None كونى نهير (b) CO ₂ (c) H ₂ CO ₃ (d) None كفقر جوابات كليس (i) What is rusting?	4.	Which of the fol	lowi							
(i) What is rusting? بسٹنگ کیا ہے؟					ہے؟	یکشن سے بنمآ۔	ن کےری	أتسيج	إ كار بن اور	ان میں سے کب
(i) What is rusting? بسٹنگ کیا ہے؟	(a)	СО	(b)	CO ₂	Ī					
(i) What is rusting? بسٹنگ کیا ہے؟	Q.1	No.2. Write the s	hort	answers.	(2 ×	3 = 6)			مين مين-	مخضرجوامات المخضرجوامات
("						,			?	ء رسٹنگ کیا ہے
جلنے سے مل کی تعریف کریں۔مثال دیں۔ مثال دیں۔	` ′	Č	on G	ive example			ثال دیں_	<u>ل م</u> غ	اتع بف کر ^ا	یں ، <u>حانے س</u> عمل ک

Tiı	me: 10 Mir	utes	Paper G.	Scie	nce 7th	Total Marks: 10			
3rd M	Ionth, 1st W	Veek, 3rd	l Day Syllab		l	Role	of oxyge	n in natur	
			chemica	ıl rea	ctions and a	rusting			
Q.No.1	Encircle t	he corre	ect answer fro					(1×4=4	
1 XX/1.	• . 1 •	•			بر میں اور اُس۔ م	. كا المتخاب	ه در ست جواب	ن ذیل بیل سے	
1. Wh	iich gas is i	required	l during comb			3 (.	ں کی سے گلسہ	. سعما س	
() > T '.			2 b/1	<i>a</i> >	ر ت ہوتی ہے؟ Carbon di	<u>ن ق سرو</u> 	را ن ون ن- ایمط	ے ہے <u>ں ہے دو</u> پیریل کا جو	
(a) Nit			نا متروبن مرئیسیر	(b)	Carbon di	oxide	ائيز	ر بن دای است ندروجن ندروجن	
(c) Ox			آ يجن	(d)	Hydrogen			نڈرو جن	
2. Fe	+ O ₂ (mois	t air) —	→ ?	I					
(a)	FeO	(b)	Fe ₂ O	(c)	Fe ₂ O)3	(d)	FeO ₃	
3. Wh	ich of the	followin	g is not a cha		_		S. C C	ممايد '	
			18.1.		? Rusting	ا کی ہیں	<i>ون سا</i> لیمیای	ن ذیل بس <u>ہ</u> گ	
	mbustion		جلنے کا مثل بالہ رائیس	(b)	Rusting			ٹن <u>ک</u>	
(c) Heating of sugar اشوگر کوگرم کرنا Heating of zinc oxide شوگرکوگرم کرنا									
4. Wh	ich of the	followin	g is formed b	-			_	• •	
Г				ې?	ایکشن سے بنتا۔				
(a)	CO	(b)	CO ₂	(c)	H ₂ CC)3		و ئى نہيں e	
Q.No.2	2. Write the	e short a	nswers.	(2 ×	3 = 6)		-(ضرجوابات لكعير	
	at is rusting	??						ٹنگ کیاہے؟	
(i) Wh						ا ر	: کیں مث ا	نے کے مل کی تعرب	
` /	_	tion. Gi	ve example.		-	ں دیں۔	يت ترين سا		
` /	_	stion. Gi	ve example.		•	ں دیں۔	یک ترین دستا) 00 = 2	
` /	_	stion. Gi	ve example.		•	<u>ں دیں۔</u>	<u>ي</u> ت ريد ت		
` /	_	etion. Gi	we example.						